



نسل مرکزی کمیونٹیز پر سٹریٹجی کے مشاورتی سوالات

1. آپ کس نسل مرکزی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟
 2. اگر آپ کسی نسل مرکزی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے یا غیر سفید نہیں ہیں تو لیگل ایڈ اونٹاریو کی نسل مرکزی کمیونٹی پر سٹریٹجی کے حوالے سے مشاورت میں آپ کی دلچسپی کا سبب کیا ہے؟
 3. اگر آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو آپ مدد کے لیے کہاں جائیں گے؟
 4. کیا آپ نے کبھی لیگل ایڈ اونٹاریو کے بارے میں سنا ہے؟
 - a. اگر آپ کا جواب 'ہاں' میں ہے تو آپ لیگل ایڈ اونٹاریو کی طرف سے فراہم یا فنڈ کردہ خدمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
 - b. کیا لیگل ایڈ سروسز تک رسائی آسان تھی؟
 5. کونسے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے لیگل ایڈ اونٹاریو لوگوں کو اپنی سروسز کے بارے میں بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے؟ (بالخصوص آپ کی کمیونٹی میں)
 6. ہم آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں؟
1. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر سفید کلائنٹس کو ملنے والی سروسز کا معیار سفید فام کلائنٹس کو ملنے والی سروسز کے برابر ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
 2. لیگل ایڈ اونٹاریو نسل مرکزی کمیونٹیز کے لیے سروسز (جیسا کہ وکیل کو ادائیگی کرنا، قانونی مشاورت یا عدالتی کارروائی کے روز مدد، لیگل کلینکس کے لیے فنڈنگ مہیا کرنا وغیرہ) اور ان تک رسائی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟
 3. آپ یا آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو ایسے کون سے قانونی مسائل کا سامنا ہے جن میں لیگل ایڈ اونٹاریو ابھی سروسز فراہم نہیں کرتی؟ (جیسا کہ قانون کے ایسے حصے جو آپ کی کمیونٹی کو متاثر کرتے ہیں لیکن لیگل ایڈ اونٹاریو فی الحال اس کا احاطہ نہیں کرتی)
 4. آپ کی کمیونٹی کو لیگل ایڈ سروسز میں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے؟

آپ لیگل ایڈ کے
بارے میں کیا
جانتے ہیں؟

نسل مرکزی
کمیونٹیز کے لیے
لیگل ایڈ سروسز

1. لیگل ایڈ کا عملہ ایسے کون سے کام کر سکتا ہے جن سے نسل مرکزی کمیونٹیز کو مدد کرنے کا عمل بہتر ہو؟
2. لیگل ایڈ کا عملہ کس طرح کی تعلیم یا تربیت حاصل کر سکتا ہے کم وہ نسل مرکزی کمیونٹیز کے مسائل سے زیادہ بہتر انداز میں واقف ہو؟
3. فی الوقت لیگل ایڈ اونٹاریو مخصوص گروپوں کو سروسز فراہم کرنے والے وکلا کے لیے خاص قانونی علم ضروری خیال کرتا ہے۔ انہیں کس طرح کی اور کن شعبوں میں تربیت دی جانی چاہیے؟

لیگل ایڈ کا عملہ اپنی معلومات اور مہارتیں کیسے بہتر بنا سکتا ہے

نسل پر مبنی ڈیٹا جمع کرنا

- IAO اپنے کلانٹس سے نسل پر مبنی ڈیٹا جمع کرے گا اور اونٹاریو حکومت کو نسل مرکزی کمیونٹیز پر اثر انداز ہونے والے مسائل سے آگاہ کرے گا۔
1. آپ لیگل ایڈ لینے سے پہلے کسی کو اپنی نسل کے بارے میں بتانے پر رضامند ہوں گے؟
 2. لیگل ایڈ اونٹاریو لوگوں کو اپنی نسل کے بارے میں سوالات کے جواب آرام سے دینے پر رضامند کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟
 3. لیگل ایڈ اونٹاریو کی طرف سے صرف نسل کے متعلق ڈیٹا - کلانٹ کی شناخت کے بارے میں کوئی معلومات شامل نہیں ہو گی - شیئر کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
 - a. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا شیئر کیا جانا چاہیے تو کس سے؟ (مثلاً اونٹاریو ہیومن رائٹس کمیشن، محققین، وکلا وغیرہ)
 4. آپ کے خیال میں اور کون سا ڈیٹا شیئر کیا جانا چاہیے (مثلاً عمر، صنف وغیرہ)؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

1. آپ کے خیال میں نظام انصاف میں جہاں نسل آپ کے ساتھ سلوک کی نوعیت پر اثر انداز ہو، ان حصوں میں تبدیلیاں تجویز کرنے میں لیگل ایڈ اونٹاریو کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
2. ان تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے لیگل ایڈ اونٹاریو کو آپ کی کمیونٹی میں کن گروپوں یا اداروں کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟
3. نسل مرکزی کمیونٹیز کے حقوق کی ترویج کے لیے لیگل ایڈ اونٹاریو کس طرح مدد کر سکتی ہے؟
4. لیگل ایڈ اونٹاریو کے علم میں مزید کچھ ہونا چاہیے؟

لیگل ایڈ اونٹاریو آپ کی وکیل